



م لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس رقعوں سے قرآن جمع کیا کرتے تھے تو ایک بار آپ نے کہا : "شام کے لیے سعادت و خوشخبری ہے"

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں : م لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس رقعوں سے قرآن جمع کیا کرتے تھے ایک بار آپ نے کہا : "شام کے لیے سعادت و خوشخبری ہے" م نے کہا : اے اللہ کے رسول! ایسا کس بنا پر ہے؟ تو فرمایا : "کیوں کہ رحمن کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں"

[صحیح] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے]

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس مختلف رقعوں سے، جن پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، قرآن یک جا کر رہے تھے اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا : "شام والوں کے لیے سعادت و خوشخبری ہے" یعنی شام اور اہل شام کے لیے آرام و سکون اور خوشگوار زندگی ہے صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے ایسا آخر کیوں فرمایا؟ تو جواب دیا: "کیوں کہ رحمن کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں" یعنی فرشتے شام کی سرزمین اور اس کے باشندوں کے اوپر اپنے پر پھیلا کر انہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اس پر برکت نازل کر رہے ہیں، ملاکتوں اور اذیتوں سے اس کا بچاؤ کر رہے ہیں اور کفر اور فتنوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یا پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں نبوت کے بعد دور اول میں حاصل ہوئی تھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مطلق ہے اور اس سے دوام لازم نہیں آتا واللہ اعلم

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10561>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

